

## 22442 - اداکاری اور چھوٹی بچیوں کی شادی کا حکم

### سوال

- 1- فلموں میں اداکاری کرنے کا شرعی حکم کیا ہے ، اور اگر ایسا کرنا جائز ہے تو کس قسم کی فلموں میں کرنا چاہیے ، اور فلموں میں عورتوں کا کیا کردار ہو گا ؟
- 2 - اسلام میں دس برس سے کم عمر بچیوں کی شادی ان کی اجازت کے بغیر کیوں جائز ہے ؟
- کہا جاتا ہے کہ بچوں کے بارہ میں صرف ان کے والدین ہی اہتمام کریں گے ، مجھے یہ تو علم ہے کہ بالغوں کی اجازت درکار ہوتی ہے ، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ شادی پختہ عمروالوں کے بائین ہی واجب ہے لیکن بچوں میں یہ نہیں ہوسکتی تو کیا آپ بچوں کی شادی کے شرعی حکم کی وضاحت کریں گے ؟

### پسندیدہ جواب

الحمد لله.

اول :

فلموں اور ڈراموں میں اداکاری وغیرہ کے متعلق جواب دیا جا چکا ہے آپ اس کی تفصیل کے لیے سوال نمبر ( 10836 ) کے جواب کا مطالعہ کریں ، ہم اس میں کچھ اور بھی اضافہ کرتے ہوئے کہتے ہیں :

شیخ ابوبکر زید حفظہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں :

مروءت ایک شرعی مقصد ہے ، اور خلاف مروءت کام کرنا مقدمے میں گواہی ساقط کردیتا ہے ، اور شریعت اسلامیہ اخلاق عالیہ اختیار کرنے کا حکم دیتی اور برے اور ذمیم اخلاق سے منع کرتی ہے ، بہت سے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اداکاری کرنے والے اپنے اعضاء میں سے کسی عضو کو ناکارہ ظاہر کرتے ہیں یا پھر غلط قسم کی حرکات کرتے اور عجیب وغریب قسم کی آوازیں نکالتے ہیں ۔

بلکہ بعض اوقات تو کسی مجنون اور پاگل اور یا پھر بے وقوف کا کردار ادا کرتے ہیں ، تو کوئی عقل مند اس میں شک نہیں کرسکتا کہ اداکاری کرنا خلاف مروءت ہے ، اور اس لیے یہ گواہی ساقط کرنے کا بھی باعث ہے ، اور ایسی چیز کو شریعت برقرار نہیں رکھتی ----

دیکھیں : المروءة و خوارمها تالیف مشہور حسن ص ( 221 ) ۔



دوم :

چھوٹی بچی کی بلوغت سے قبل شادی :

شریعت اسلامیہ اسے جائز قرار دیتی ہے بلکہ اس مسئلہ میں تو علماء کرام کا اجماع بھی منقول ہے -

اس شادی کے جواز کے دلائل :

۱ - اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے :

اور وہ عورتیں جو حیض سے ناامید ہو چکی ہیں اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت تین ماہ ہے اور وہ بھی جنہیں ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا الطلاق ( 4 ) -

ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی طلاق کی عدت ( ان کی چھوٹی عمر اور نابالغ ہونے کی وجہ سے ) تین ماہ مقرر کی ہے جو اس بات کی واضح دلیل ہے اس بچی کی بھی شادی ہو سکتی ہے اور اگر اسے طلاق ہو جائے تو وہ عدت بھی گزارے گی -

ب - عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تو وہ چھ برس کی تھیں ، اور نو برس کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نو برس تک رہیں - صحیح بخاری حدیث نمبر ( 4840 ) صحیح مسلم حدیث نمبر ( 1422 ) -

لیکن چھوٹی عمر کی بچی کی شادی کے جواز سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس سے ہم بستری کرنا بھی جائز ہے ، بلکہ اس سے ہم بستری اس وقت تک نہیں کی جاسکتی جب تک وہ اس کی اہلیت نہ رکھتی ہو ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی میں اسی لیے دیر کی تھی -

امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں :

چھوٹی عمر کی شادی شدہ بچی کی رخصتی اور اس سے ہم بستری کے وقت کے بارہ میں یہ ہے کہ :

اگر بچی کا ولی اور خاوند کسی ایسی چیز پر متفق ہو جائیں جس میں بچی پر کسی قسم کا ضرر نہ ہو اس پر عمل کیا جائے گا ، اور اگر وہ دونوں اختلاف کریں تو امام احمد اور ابو عبید رحمہما اللہ کہتے ہیں کہ نو برس کی بچی پر یہ لازم کیا جائے گا لیکن اس سے چھوٹی پر نہیں -

امام شافعی اور امام ابوحنیفہ رحمہما اللہ کہتے ہیں کہ اس کی حد یہ ہے کہ وہ جماع کی طاقت رکھے ، اس کے وقت

میں لڑکیوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے اختلاف ہے جس میں عمر کی کوئی قید نہیں لگائی جاسکتی ۔

اور یہی قول صحیح ہے کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث میں عمر کی کوئی تحدید نہیں اور نہ ہی ہم بستری کی طاقت رکھنے والی کونویرس کی عمر سے قبل اس سے منع کیا گیا ہے ، اور اسی طرح طاقت نہ رکھنے والی نویرس کی بچی کو اس کی اجازت ہے ۔

داووی کہتے ہیں : عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت اچھی جوان ہوچکی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا ۔ دیکھیں شرح مسلم للنووی ( 9 / 206 ) ۔

مستحب تو یہ ہے کہ ولی اپنی چھوٹی بچی کی شادی نہ کرے لیکن جب اس میں کوئی مصلحت ہو تو شادی کرسکتا ہے ۔

امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں :

آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ امام شافعی اور اس کے اصحاب اسے مستحب قرار دیتے ہیں کہ باپ اور داد بچی کے بالغ ہونے سے قبل شادی نہ کریں اور شادی کرنے میں اس کی اجازت لے لیں تا کہ وہ خاوند کے پاس ناپسندیدگی کی حالت میں نہ چلی جائے ۔

ان کا یہ قول عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث کے مخالف نہیں ، کیونکہ ان کی مراد یہ ہے کہ بلوغت سے قبل اگر شادی کرنے میں تاخیر کی بنا پر کوئی فوت ہونے والی مصلحت نہ ہو تو شادی نہیں کرنی چاہیے جس طرح کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث میں ہے ، تو یہ خاوند کا حصول مستحب ہوگا اس لیے کہ باپ اپنے بچے کی مصلحت پر مامور ہے اور یہ مصلحت فوت نہیں ہونی چاہیے ۔ واللہ تعالیٰ اعلم ۔

شرح مسلم للنووی ( 9 / 206 ) ۔

واللہ اعلم .